



**INSPECTORS INLAND REVENUES  
ACADEMY**

[www.iirs.online](http://www.iirs.online)



# آسان لیکچر سیریز

***LECTURE NO: 20 of the  
SALES TAX ACT 1990***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Lecture By:


**Mohammad Junaid**

Inspector Inland Revenue @

Federal Board of Revenue

0300-1004803

**Junaid1020@gmail.com**



# To Download Our Handouts: Join Our Paid Course

The screenshot shows a web browser window with the URL [e.iiracademy.com](http://e.iiracademy.com). The website header features the logo of the Inspectors Inland Revenues Academy and the text "INSPECTORS INLAND REVENUES ACADEMY" and "Premium Student Portal". The navigation menu includes: HOME, ENGLISH, INCOME TAX, SALES TAX, FED, ECONOMIC POLICIES & TAX REFORMS, and ONLINE MCQS TESTS. The main content area displays the date "28 September 2021" and the title "Sales Tax Act Lecture 19". A large video player is embedded, showing the text "SALES TAX Lecture 19" and "Watch & Listen On YouTube". The right sidebar contains a search bar, a "Labels" section with links to "ECONOMIC POLICIES & TAX REFORMS", "ENGLISH", "FED", "INCOME TAX", "ONLINE MCQS TESTS", and "SALES TAX", a "Blog Archive" section with "September 2021 (20)" and "August 2021 (17)", and a "Teachers" section listing "IIR Academy" and "Muhammad Asad". The Windows taskbar at the bottom shows the time as 12:38 PM on 28/09/2021.

**Contact to register: 0300-1004803**

# **SALES TAX ACT 1990**

## **Chapter-X**

### **MISCELLANEOUS**

#### **Section-61 to 76**

**61. Repayment of tax in certain cases.**– Subject to such conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose, the Board may authorise the repayment in whole or in part of the tax paid on <sup>2</sup>[...] any goods of such class or description as it may determine, which have been used in the production, manufacture, processing, repair or refitting in Pakistan of goods of such class or description as it may determine.

<sup>3</sup>[**61A. Repayment of tax to persons registered in Azad Jammu and Kashmir.**– Subject to such conditions, limitations or restrictions as it may deem fit to impose, the Board may authorize the repayment in whole or in part of the input tax paid on any goods acquired in or imported into Pakistan by the persons registered in Azad Jammu and Kashmir as are engaged in making of zero-rated supplies.]

### واپسی DRAWING BACK/ Re-Payment

**62. Drawback allowable on re-export.**– When any goods which have been imported into Pakistan and on which tax has been paid on importation are re-exported outside Pakistan and such goods as are capable of being identified, seven-eighth of such tax shall, except as otherwise hereinafter provided, be repaid as drawback, and the provisions of Customs Act, 1969 (IV of 1969), relating to drawback of customs duties shall, so far as may be apply to such tax, as they apply for the purposes of that Act:

Provided that no such drawback shall be repaid unless the re-export is made within a period of two years from the date of importation as shown in the records of the Custom House:

Provided further that the Board may, on sufficient cause being shown, in any case extend the said period by a further period of one year.





## 61۔ بعض معاملات میں ٹیکس کی واپس ادائیگی

بورڈ ایسی شرائط حدود و قیود کے تحت جیسا کہ وہ عائد کرنا مناسب سمجھے کسی بھی ایشیا یا ایشیا کی قسم یا نوعیت جو پاکستان میں بورڈ کی متعین کردہ ایشیا اور ان کی اقسام کی پیداوار، تیاری، تکمیل، مرمت یا دوبارہ بنانے میں استعمال ہوں پر کئی یا جزوی طور پر ادا کردہ ٹیکس کو واپس کرنے کا اختیار دے سکتا ہے۔



## 61A۔ آزاد جموں کشمیر میں رجسٹرڈ اشخاص کو ٹیکس کی باز ادائیگی

ایسی شرائط حدود و قیود کے تحت جیسا کہ بورڈ مناسب سمجھے۔ بورڈ آزاد جموں و کشمیر میں رجسٹرڈ اشخاص جو صفر صفر حسب لائسنس میں مصروف ہوں کی طرف سے پاکستان میں درآمد شدہ اور حاصل کی ہوئی چیزوں پر عائد کردہ ان پٹ ٹیکس کو کئی یا جزوی طور پر باز ادائیگی کی اجازت دے سکتا ہے۔



## 62۔ دوبارہ برآمد کرنے پر ڈرائبیک (Drawback) کی اجازت

وہ ایشیا جو پاکستان میں درآمد کی گئی ہوں اور جن پر درآمد کے وقت ٹیکس ادا کیا گیا ہو پاکستان سے باہر دوبارہ برآمد کی جائیں اور ایسی ایشیا قابل شناخت ہوں تو اس ٹیکس کا 7/8 حصہ ماسوائے اس کے جس کا ذکر آگے آئے گا بطور ڈرائبیک ادا ہوگا اور اس سلسلے میں کسٹم ایکٹ 1969 (IV) بابت 1969 کی وہ تمام دفعات جو کسٹم ڈیوٹی سے متعلق اس ایکٹ کے تحت نافذ العمل ہوں گیں۔

شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈرائبیک ادا نہ ہوگا جس کی دوبارہ برآمد کسٹم ہاؤس کے ریکارڈ میں موجود آمد کی تاریخ کے 2 سال کے عرصہ کے اندر اندر نہ ہو۔

مزید شرط یہ ہے کہ بورڈ مناسب وجوہات کے اظہار پر کسی بھی معاملے میں اس مدت کو مزید ایک سال تک بڑھا سکتا ہے۔

61. **Repayment of tax in certain cases.**— Subject to such conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose, the Board may authorise the repayment in whole or in part of the tax paid on <sup>2</sup>[...] any goods of such class or description as it may determine, which have been used in the production, manufacture, processing, repair or refitting in Pakistan of goods of such class or description as it may determine.

<sup>3</sup>[61A. **Repayment of tax to persons registered in Azad Jammu and Kashmir.**— Subject to such conditions, limitations or restrictions as it may deem fit to impose, the Board may authorize the repayment in whole or in part of the input tax paid on any goods acquired in or imported into Pakistan by the persons registered in Azad Jammu and Kashmir as are engaged in making of zero-rated supplies.]

62. **Drawback allowable on re-export.**— When any goods which have been imported into Pakistan and on which tax has been paid on importation are re-exported outside Pakistan and such goods as are capable of being identified, seven-eighth of such tax shall, except as otherwise hereinafter provided, be repaid as drawback, and the provisions of Customs Act, 1969 (IV of 1969), relating to drawback of customs duties shall, so far as may be apply to such tax, as they apply for the purposes of that Act:

Provided that no such drawback shall be repaid unless the re-export is made within a period of two years from the date of importation as shown in the records of the Custom House:

Provided further that the Board may, on sufficient cause being shown, in any case extend the said period by a further period of one year.

- ***What is Different Between draw back & Refund***





## 63۔ درآمد اور دوبارہ برآمد کی درمیانی مدت میں استعمال شدہ اشیاء پر ڈرا بیک

دفعہ 62 میں موجود کسی امر کی موجودگی کے باوجود درآمد کے اور دوبارہ برآمد کرنے کے عرصے کے دوران استعمال شدہ اشیاء کے سیلز ٹیکس کی واپسی کے طور پر ڈرا بیک ایسی شرائط اور حدود اور پابندیوں کے تحت ہوگا جو بورڈ فرد افراد پر کس میں بطور ذیل عائد کرے۔

- (a) ایسی اشیاء یا اشیاء کی اقسام کے سلسلے میں ڈرا بیک کے طور پر واپس کی جانے والی ٹیکس کی رقم میں تبدیلی؛ یا
- (b) ایسی اشیاء یا ایسی اشیاء کی اقسام پر ٹیکس کی واپسی کی ممانعت؛ یا
- (c) ایسی اشیاء یا اشیاء کی اقسام پر ڈرا بیک کی ادائیگی کے لیے درآمد کے بعد دوبارہ برآمد کے عرصے کو محدود کرتے ہوئے ان شرائط کو تبدیل کر دے جس کے دوران اشیاء لازمی طور پر دوبارہ برآمد ہو جائیں۔

## 64۔ یہ اعلان کرنے کہ کون سی اشیاء قابل شناخت ہیں اور مخصوص غیر ملکی علاقے کے سلسلے میں ڈرا بیک کی

ممانعت کا اختیار

وفاقی حکومت وقت فوقتاً سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے اشیاء یا کسی خاص اشیاء کی اقسام ہے جو مخصوص غیر ملکی علاقے کو برآمد کی جائیں پر ڈرا بیک ادا کرنے کی ممانعت کر سکتی۔

63. **Drawback on goods taken into use between importation and re-exportation.**— Notwithstanding anything contained in section 62, the repayment of sales tax as drawback in respect of goods which have been taken into use between importation and re-exportation shall be subject to such orders, conditions or limitations as may be passed or imposed by the Board in each case, -

- (a) modifying the amount of tax which shall be repaid as drawback on any such goods or class of goods; or
- (b) prohibiting the repayment of tax as drawback on any such goods or class of such goods; or
- (c) varying the condition for the grant of drawback on any such goods or class of such goods by restricting the period after importation within which the goods must be re-exported.

64. **Power to declare what goods are identifiable and to prohibit drawback in case of specified foreign territory.**— The Federal Government may, from time to time, by notification in the official Gazette, prohibit the payment of drawback upon the exportation of goods or any specified goods or class of goods to any specified foreign port or territory.

## 65۔ عمومی معمول کے طور پر ٹیکس نہ لگنے پر استثناء

**65. Exemption of tax not levied or short levied as a result of general practice.**— Notwithstanding anything contained in this Act, if in respect of any supply the <sup>1</sup>[Federal Government] is satisfied that inadvertently and as a general practice: –

اس ایکٹ میں کسی امر کے باوجود اگر وفاقی حکومت مطمئن ہو کہ عمومی معمول کے نتیجے میں اور عملی سے کسی سپلائی کے متعلق

- tax has not been charged in any area on any supply which was otherwise taxable, or according to the said practice the amount charged was less than the amount that should have actually been charged;
- the registered person did not recover any tax prior to the date it was discovered that the supply was liable to tax; and
- the registered person started paying the tax from the date when it was found that the supply was chargeable to tax;

(a) کسی علاقے میں یا کسی سپلائی پر ٹیکس نہیں لیا گیا جو بصورت دیگر قابل ٹیکس تھا یا پھر اس روش کے مطابق ٹیکس کی رقم اس رقم سے کم لی گئی ہو جو کہ درحقیقت اس پر لاگو ہونی چاہیے تھی؛

(b) رجسٹرڈ شخص سے اس دریافت کے بعد کہ سپلائی قابل ٹیکس تھی اس تاریخ سے پہلے تک ٹیکس وصول نہ کیا ہو۔

(c) رجسٹرڈ شخص نے ٹیکس کے واجب الادا ہونے کا علم ہونے کی تاریخ سے ٹیکس دینا شروع کر دیا ہو۔

It may, by a notification in the official Gazette, direct that tax not levied or short levied as a result of that inadvertent practice, shall not be required to be paid for the period prior to the discovery of such inadvertent practice.

تو وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے حکم دے سکتی ہے کہ اس عمل معمول کے نتیجے میں نہ لیا جانے والا یا کم لیا جانے والا ٹیکس اس عمل معمول کے اکتشاف سے پہلے تک کے عرصے کے لیے ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔

## 66- ایک سال کے اندر ریفرنڈ کا کلیم حاصل کیا جا سکتا ہے

لا اعلیٰ، عملی یا قانون کی عساط فہمی کی بناء پر ادا کردہ یا زیادہ ادا کردہ یا متعلقہ ٹیکس مدت کے دوران ان پٹ تصفیہ کی بنیاد پر نہ لی جا سکنے والی رقم کے ریفرنڈ کے لیے کوئی بھی کلیم ایک سال کے اندر اندر دائر کیے جانے پر ہی ادا ہو سکے گا۔

شرط یہ ہے کہ جہاں ایک رجسٹرڈ شخص متعلقہ ٹیکس مدت میں ان پٹ ٹیکس وضع نہیں کرتا کمشنر مطمئن ہونے کے بعد کہ ان پٹ ٹیکس کی تصفیہ موزوں اور واجب الادا ہے رجسٹرڈ شخص کو اپنی کسی صراحت کردہ ٹیکس مدت کے دوران میں تصفیہ کی اجازت دے سکتا ہے۔

مزید شرط یہ ہے کہ جہاں ان لینڈ ریونیو افسر، عدالت یا ٹریبونل میں کسی مقدمے کے فیصلے کی وجہ سے ریفرنڈ واجب الادا ہو چکا ہو تو ایک سال کا عرصہ اس افسر، عدالت یا ٹریبونل کے فیصلے کی تاریخ سے شمار ہوگا۔

مزید برآں اس دفعہ کے تحت دائر کی گئی درخواست یا کلیم ایسی درخواست یا کلیم کے نوے دن کے اندر اندر نمٹادی جائے۔

مزید برآں ٹیکس کی ادائیگی بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر صارف تک منتقل کرنے کی صورت میں اس دفعہ کے تحت ریفرنڈ قابل ادا نہ ہوگا۔

**66. Refund to be claimed within one year.**— No refund of tax claimed to have been paid or over paid through inadvertence, error or misconception <sup>1</sup>[or refund on account of input adjustment not claimed within the relevant tax period, ] shall be allowed, unless the claim is made within one year of the date of payment <sup>2</sup>[:]

<sup>3</sup>[Provided that in a case where a registered person did not deduct input tax within the relevant tax period, the <sup>4</sup>[Commissioner] may, after satisfying himself that input tax adjustment is due and admissible, allow the registered person to take such adjustment in the tax period as specified by the <sup>4</sup>[Commissioner]:]

<sup>5</sup>[ Provided <sup>6</sup>[further] that in a case where the refund has become due on account of any decision or judgement of any officer of <sup>7</sup>[Inland Revenue] or court or the Tribunal, the period of one year shall be reckoned from the date of judgement or decision of such officer, court or Tribunal<sup>8</sup>[:/]]

Provided further that the application or claim filed under this section shall be disposed of within a period not exceeding ninety days from the date of filing of such application or claim.]

<sup>1</sup>[Provided also that no refund shall be admissible under this section if incidence of tax has been passed directly or indirectly to the consumer.]

<sup>2</sup>[67. **Delayed Refund.**— Where a refund due under section 10 is not made within <sup>3</sup>[the time specified in section 10 from the date] of filing of <sup>4</sup>[refund claim], there shall be paid to the claimant in addition to the amount of refund due to him, a further sum equal to <sup>5</sup>[KIBOR] per annum of the amount of refund due, from the date following the expiry of [the time specified <sup>6</sup>[as aforesaid], to the day preceding the day of payment of refund:

Provided that where there is reason to believe that a person has claimed the refund which is not admissible to him, the provision regarding the payment of such additional amount shall not apply till the investigation of the claim is completed and the claim is either accepted or rejected <sup>7</sup>[:]

<sup>7</sup>[Provided further that where a refund due in the consequence of any order passed under section 66 is not made within forty five days of date of such order, there shall be paid to the claimant in addition to the amount of the refund due to him, a further sum equal to KIBOR per annum of the amount of refund, due from the date of the refund order.]

<sup>8</sup>[67A. Payment of refund through sales tax refund bonds.— (1) Notwithstanding anything contained in section 67, the sales tax refunds payable under this Act may also be paid through sales tax refund bonds to be issued by FBR Refund Settlement Company <sup>9</sup>[ ] Limited, in book-entry form through an establishment licensed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan as a central depository under the Securities Act, 2015, (111 of 2015), in lieu of payment to be made through issuance of cheques or bank debit advice.

اگر دفعہ 10 کے تحت واجب الادا ریفرنڈ اس سلسلے میں مقرر کیے گئے وقت کے اندر ریفرنڈ حاصل کرنے کی تاریخ سے ادا نہ کیا گیا تو عمومی طور پر اس کو ادا کیے جانے والے ریفرنڈ رٹم کے علاوہ اس قابل اداریفرنڈ کی رٹم پر مزید رٹم KIBOR کے برابر سالانہ کے حساب سے اس دن سے جبکہ وقت گزر چکا، سے لے کر ادائیگی کی تاریخ تک ادا کی جائے گی۔

شرط یہ ہے کہ اس بات کی معقول وجوہات موجود ہوں کہ ایک فرد نے ناجائز کلیم حاصل کیا ہے تو اس اضافی رٹم کے سلسلے میں دفعات پر اس وقت تک عمل درآمد نہ ہوگا جب تک کلیم کی تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں اور کلیم منظور یا مسترد نہ کر دیا جائے۔

[بشرطیکہ جہاں دفعہ 66 کے تحت منظور ہونے والے کسی بھی حکم کے نتیجے میں واجب الادا رٹم کی واپسی اس طرح کے آرڈر کی تاریخ کے پینتالیس دن کے اندر نہ کی جائے، وہاں دعویدار کو اس کی وجہ سے رٹم کی واپسی کی رٹم کے علاوہ رٹم کی ادائیگی کی جائے گی، رٹم کی واپسی کی تاریخ سے کے آئی بی او آر کے برابر سالانہ رٹم ادا کی جائے گی۔]

### 67A- سیلز ٹیکس ریفرنڈ کے ذریعے رٹم کی واپسی

(1) سیکشن 67 میں شامل ہونے کے باوجود سیلز ٹیکس جو اس ایکٹ کے تحت قابل ادائیگی وہ ایف بی آر کے سینڈلٹ کمپنی لمیٹڈ کو ریٹرنز کی صورت میں ادا کئے گئے سیلز ٹیکس بانڈز کے ذریعے بھی ادا کئے جاسکتے ہیں۔ سیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی لائسنس یافتہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بطور مرکزی ڈیپازٹی کی صورت بھی ادا کیا جاسکتا ہے زیر تحت سیورٹیز ایکٹ 2015 (بابت 111 برائے 2015)، جس کی ادائیگی کسی چیک یا بینک ڈیبٹ ڈیوائس سے کی جاسکتی ہے۔

(2) The Board shall issue a promissory note to FBR Refund Settlement Company <sup>1</sup>[ ] Limited, hereinafter referred to as the company, incorporating the details of refund claimants and the amount of refund determined as payable to each for issuance of sales tax refund bonds, hereinafter referred to as the bonds, of the same amount.

(3) The bonds shall be issued in values in multiples of one hundred thousand rupees.

(4) The bonds so issued shall have a maturity period of three years and shall bear annual simple profit at ten per cent.

(5) The bonds shall be traded freely in the country's secondary markets.

(6) The bonds shall be approved security for calculating the statutory liquidity reserve.

(7) The bonds shall be accepted by the banks as collateral.

(8) There shall be no compulsory deduction of Zakat against the bonds and Sahib-e-Nisab may pay Zakat voluntarily according to Shariah.

(9) After period of maturity, the company shall return the promissory note to the Board and the Board shall make the payment of amount due under the bonds, along with profit due, to the bond holders.

(2) بورڈ ایف س بی آر ریفرنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ کو ایک پرمسوری نوٹ جاری کرے گا، جس کے بعد اسے کمپنی کہا جائے گا، جس میں ریفرنڈ کے دعویداروں کی تفصیلات اور سیلز ٹیکس ریفرنڈ بانڈز کے اجراء کے لئے ہر ایک کو قابل ادائیگی کے طور پر طے شدہ ریفرنڈ کی رقم شامل کی جائے گی، اس کے بعد اسے اسی رقم کا بانڈز کہا جائے گا۔

(3) بانڈز ایک لاکھ روپے کے ضرب وں میں قدروں میں جاری کیے جائیں گے۔

(4) اس طرح جاری کردہ بانڈز کی پختگی کی مدت تین سال ہوگی اور سالانہ سادہ منافع دس فیصد ہوگا۔

(5) بانڈز کا کاروبار ملک کی ثانوی منڈیوں میں آزادانہ طور پر کیا جائے گا۔

(6) بانڈز کو قانونی لیکویڈٹی ریزرو کا حساب لگانے کے لئے سیکورٹی کی منظوری دی جائے گی۔

(7) بانڈز کو بینک بطور ضمانت قبول کریں گے۔

(8) بانڈز کے مقابلے میں زکوٰۃ کی کوئی لازمی کٹوتی نہیں ہوگی اور صاحب نسب شریعت کے مطابق رضاکارانہ طور پر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔

(9) پختگی کی مدت کے بعد کمپنی بورڈ کو پیشگی نوٹ واپس کرے گی اور بورڈ بانڈ ہولڈرز کو واجب الادا منافع کے ساتھ بانڈز کے تحت واجب الادا رقم کی ادائیگی کرے گا۔

(10) بانڈز پختگی سے پہلے پہلے کے ذیلی سیکشن کی طرح بورڈ کے اختیار پر ہی قابل تلافی ہوں گے اور بورڈ کے ذریعہ وضع کی جانے والی عمومی یا مخصوص پالیسی کی روشنی میں مکافات عمل کے وقت ادا کیے جانے والے سادہ منافع کے ساتھ۔

(11) ذیلی سیکشن (1) کے تحت رقم کی واپسی مذکورہ طریقے سے ان دعویداروں کو ادا کی جائے گی جو اس طرح ادائیگی کا انتخاب کرتے ہیں۔

(12) [1] بورڈ، وفاقی وزیر انچارج کی منظوری سے، بانڈز سے متعلق اجراء، مکافات عمل اور دیگر معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے طریقہ کار کو مطلع کر سکتا ہے، جیسا کہ ضرورت ہو۔]

68۔ اپنے نمائندے کے افعال کا ذمہ دار رجسٹرڈ شخص ہوگا

اگر کوئی فرد تحریری طور پر یا محض زبانی کسی رجسٹرڈ شخص کے کارندے کی حیثیت سے اس ایکٹ کے کوئی ایک یا تمام مقاصد کے حصول کے لیے اس کی منت رنڈنگ کرے تو رجسٹرڈ شخص اپنے کارندے کے افعال کا ذمہ دار ہوگا۔

69۔ سلیز ٹیکس دستاویزات کی مثنیٰ نقل کا اجراء

ان لیسٹریو نیو کا ایک افسر جو اسٹنٹ کمشنر سے کمتر عہدے کا نہ ہو، سو روپے کی ادائیگی پر ان سلیز ٹیکس دستاویزات جو ڈیپارٹمنٹ میں موجود ہوں یا اس ایکٹ یا رولز کے تحت وضع کردہ قوانین کے تحت داخل کیے گئے ہوں، متعلقہ رجسٹرڈ شخص کو جو اس کے لیے درخواست کرے، کو اس کی مصدقہ مثنیٰ نقل جاری کر سکتا ہے۔

70۔ معیاد سماعت کا شمار

اس ایکٹ کے تحت کسی اپیل یا درخواست کی معیاد سماعت کے عرصے کا شمار اس دن سے ہوگا جس دن وہ حکم نامہ موصول ہوا ہو جس کے خلاف شکایت ہو اور اگر متعلقہ فرد کو حکم نامے کی نقل نہ مہیا کی گئی ہو تو نقل حاصل کرنے میں لگنے والا وقت شمار نہ ہوگا۔

(10) The bonds shall be redeemable in the manner as in the preceding sub-section before maturity only at the option of the Board along with simple profit payable at the time of redemption in the light of general or specific policy to be formulated by the Board.

(11) The refund under sub-section (1) shall be paid in the aforesaid manner to the claimants who opt for payment in such manner.

(12) The <sup>1</sup>[Board, with the approval of the Federal Minister-in-charge,] may notify procedure to regulate the issuance, redemption and other matters relating to the bonds, as may be required.]

**68. Liability of the registered person for the acts of his agent.**—

When any person is expressly or impliedly authorised by a registered person to be his agent for all or any of the purposes of this Act, the registered person shall be responsible for the act done by his agent.

<sup>1</sup>[**69. Issuance of duplicate of sales tax documents.**— An officer of <sup>2</sup>[Inland Revenue not below the rank of Assistant Commissioner] may, on payment of one hundred rupees, issue an attested duplicate of any sales tax document as is available with the department or has been filed under this Act or rules made thereunder to a relevant registered person applying for the same.]

**70. Computation of limitation period.**— In computing the period

of limitation prescribed for any appeal or application under this Act, the day on which the order complained of was served and, if the concerned person was not furnished with a copy of the order, the time requisite for obtaining a copy of such order shall be excluded.

(1) بلحاظ اس امر کے کہ اس ایکٹ میں کچھ مذکور ہو، بورڈ سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے ان سپلائیز سے متعلق جن کی اس میں وضاحت ہو فیکس کے دائرہ کار اور ادائیگی، رجسٹریشن، حساب کتاب رکھنے والی انوائسنگ کی ضروریات اور گوشوارہ وغیرہ کے طریقہ کار کے بارے میں خصوصی طور پر اعلان کر سکتی ہے۔

(2) حذف شدہ

(3) اس ایکٹ یا کسی دوسرے مروجہ قانون یا کسی بھی عدالت کے فیصلے میں موجود کسی امر کے باوجود ٹریڈ انرولمنٹ سرٹیفکیٹ کی وہ اسکیمیں جو فننس ایکٹ 1999 کے نفاذ سے فوری قبل لاگو ہوتی ہوں، قانونی طور پر اس ایکٹ کے تحت تشکیل شدہ سمجھی جائیں گی۔

72- سیلز فیکس کے افسران کو بورڈ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے

ان لیسنڈریونیوں کے تمام افسران اور اس ایکٹ کے نفاذ کے سلسلے میں ملازم رکھے گئے تمام افراد بورڈ کے احکامات ہدایات اور فیصلوں پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔

شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم، ہدایت یا فیصلہ نہ کیا جائے جو سیلز فیکس افسران کی نیم عدالتی امور کی اشہام دہی کے دوران ان کی صوابدید پر اثر انداز ہوں۔

72A- مجاز حکام/ اہتارٹیز کو ریفرنس

کلکٹر، ایڈیشنل کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر، اسٹنٹ کلکٹر سپرنٹنڈنٹ، سینئر آڈیٹر اور سیلز فیکس کا افسر جہاں جہاں حوالہ دیا گیا ہو یا اس ایکٹ اور رولز، نوٹیفکیشن، وضاحتیں، عمومی احکام یا ان کے تحت شائع کردہ آرڈر کو ان کی بجائے باسٹریٹب کمشنران لیسنڈریونیو، ایڈیشنل کمشنران لیسنڈریونیو، ڈپٹی کمشنران لیسنڈریونیو، اسٹنٹ کمشنران لیسنڈریونیو، سپرنٹنڈنٹ ان لیسنڈریونیو، ان لیسنڈریونیو آڈٹ افسر اور ان لیسنڈریونیو کا کوئی افسر سنبھالے۔

<sup>3</sup>[71. Special procedure.— <sup>4</sup>[(1)] <sup>5</sup>[The Board] may, by notification in the official Gazette, prescribe special procedure for scope and payment of tax, registration, book keeping and invoicing requirements and returns, etc. in respect of such supplies as may be specified therein.]

<sup>6</sup>[(2) \*\*\*]

<sup>7</sup>[(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force or any decision of any court, the trade enrolment Certificate Schemes immediately in force before the commencement of the Finance Act, 1999, shall be deemed to be validly made under this Act.]

<sup>8</sup>[72. **Officers of <sup>9</sup>[Sales Tax] to follow Board's orders, etc.—** All officers of <sup>9</sup>[Inland Revenue] and other persons employed in the execution of this Act shall observe and follow the orders, instructions and directions of the Board:

Provided that no such orders, instructions or directions shall be given so as to interfere with the discretion of [officers of <sup>6</sup>[Inland Revenue] in the exercise of their quasi-judicial functions.]

<sup>1</sup>[72A **Reference to the authorities.—** Any reference to the Collector, Additional Collector, Deputy Collector, Assistant Collector, Superintendent, Senior Auditor and an officer of Sales Tax wherever occur in this Act and rules, notifications, clarifications general orders or order made or issued there under, shall be construed as reference to the Commissioner Inland Revenue, Additional Commissioner Inland Revenue,” Deputy Commissioner Inland Revenue, Assistant Commissioner Inland Revenue, Superintendent Inland Revenue, Inland Revenue Audit Officer and an officer of Inland Revenue, respectively.]

<sup>2</sup>[72B. Selection of audit by the Board.- (1) The Board may select persons or classes of persons for audit of tax affairs through computer ballot which may be random or parametric as the Board may deem fit.

<sup>3</sup>[(1A) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law, for the time being in force, the Board shall keep the selection parameters confidential.]

(2) Audit of tax affairs of persons selected under sub-section (1) shall be conducted as per procedure given in section 25 and all the provisions of this Act shall apply accordingly.

(3) For the removal of doubt, it is hereby declared that the Board shall be deemed always to have had, the power to select any persons or classes of persons for audit of tax affairs under this section.]

(1) بورڈ، جیسا کہ بورڈ مناسب سمجھے افراد یا افراد کی جماعت کو کمپیوٹر قرعہ اندازی کے ذریعہ ٹیکس کے معاملات کے آڈٹ کے لیے عمومی طور پر یا معینہ حدود کے تحت کا انتخاب کر سکتا ہے۔

(1A) بلحاظ اس امر کے کہ اس ایکٹ یا کسی دیگر قانون میں کچھ مذکور ہو، بورڈ انتخاب کے طریقہ ہائے کار کو خفیہ رکھے گا۔

(2) ذیلی دفعہ 1 کے تحت ٹیکس معاملات کے آڈٹ کے لیے منتخب افراد دفعہ 25 میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق آڈٹ کریں گے اور اس ایکٹ کی تمام شرائط اس کے مطابق نافذ ہوں گی۔

(3) شک و شبہ دور کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بورڈ کو ہمیشہ کے لیے اس دفعہ کے تحت ٹیکس معاملات کے آڈٹ کے لیے کسی بھی شخص یا شخص کی جماعت کا انتخاب کرنے کا اختیار ہے۔



## 72C۔ ان لسنڈریونیو افسران اور اہلکاروں کے لیے انعام

<sup>1</sup>[72C. **Reward to Inland Revenue Officers and Officials.**— (1) In cases involving concealment or evasion of sales tax and other taxes, cash reward shall be sanctioned to the officers and officials of Inland Revenue for their meritorious conduct in such cases and to the informer providing credible information leading to such detection, as may be prescribed by the Board, only after realization of part or whole of a taxes involve in such cases.

(2) The Board may, by notification in the official Gazette, prescribe the procedure in this behalf and specify the apportionment of reward sanctioned under this section for individual performance or to collective welfare of the officers and officials of Inland Revenue.]

<sup>2</sup>[72D. **Reward to whistleblowers.**— (1) The Board may sanction reward to whistleblowers in cases of concealment or evasion of tax, tax fraud, corruption or misconduct providing credible information leading to such detection of evasion of tax fraud.

(2) The Board may, by notification in the official Gazette, prescribe the procedure in this behalf and also specify the apportionment of reward sanctioned under this section for whistleblowers.

(3) The claim for reward by the whistleblower shall be rejected, if-

(1) ان معاملات میں جہاں سلیز ٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کا چھپانا اور بچانا پایا جائے تو ایسے معاملات میں ان لسنڈریونیو کے افسران اور اہلکاروں کو عمدہ کارکردگی کی بنیاد پر اور ایسے معاملات میں بورڈ کے تجویز کردہ طریقہ کار کے مطابق کلی یا جزوی ملوث ٹیکس کی وصولی کے بعد ان معاملات تک پہنچنے اور باوثوق معلومات دینے والے مخبر کو نقد انعام دینا ہوگا۔

(2) بورڈ، سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس سلسلے میں طریقہ کار تجویز کر سکتا ہے اور اس دفعہ کے تحت انفرادی کارکردگی یا ان لسنڈریونیو کے افسران اور اہلکاروں کی اجتماعی بہبود کے لیے منظور شدہ انعام کو تقسیم کر سکتا ہے۔

## 72D۔ اطلاع دہندگان کے لیے ایوارڈ

(1) بورڈ ٹیکسوں کو چھپانے، ٹیکس فراڈ، بد عنوانی یا عنایت طرز عمل کی صورت میں ایسے اطلاع دہندگان کے لیے ایوارڈ کی منظور دے سکتا ہے جو ٹیکس فراڈ اور اس قسم کے انکشاف سے متعلق معلومات فراہم کریں۔

(2) بورڈ سرکاری گزٹ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس سلسلے میں طریقہ کار وضع کر سکتا ہے اور اطلاع دہندگان کے لیے اس دفعہ کے تحت ایوارڈ کی منظوری کی وضاحت بھی کر سکتا ہے۔

(3) اطلاع دہندگان کی جانب سے ایوارڈ کے لیے کلیم/دعویٰ مسترد ہو جائے گا اگر

(3) The claim for reward by the whistleblower shall be rejected,

if-

- (a) the information provided is of no value;
- (b) the Board already had the information;
- (c) the information was available in public records; or
- (d) no collection of taxes is made from the information provided from which the Board can pay the reward.

(4) For the purpose of this section, "whistleblower" means a person who reports concealment or evasion of sales tax and tax fraud leading to detection or collection of taxes, fraud, corruption or misconduct, to the competent authority having power to take action against the person or a sales tax authority committing fraud, corruption, misconduct, or involved in concealment or evasion of taxes.]

(3) اطلاع دہندگان کی جانب سے ایوارڈ کے لیے کلیم/ادعویٰ مسترد ہو جائے گا اگر

(a) فراہم کردہ معلومات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو؛

(b) بورڈ کے پاس پہلے ہی ایسی معلومات موجود ہوں؛

(c) معلومات سرکاری ریکارڈ میں دستیاب تھیں؛ یا

(d) فراہم کردہ معلومات سے ٹیکسوں کی جمع آوری نہیں ہوئی جس کے لیے بورڈ انعام

دے سکتا ہے۔

(4) اس دفعہ کے مقاصد کے تحت "متنبہ کرنے والے" سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو سیلز ٹیکس اور

ٹیکس فراڈ، بدعنوانی یا عنایت طرز عمل کو چھپانے کی رپورٹ کرے جس سے ٹیکسوں کی جمع آوری یا

انکشاف کا پتہ چلتا ہو۔ محباز اہتارٹی ایسے شخص یا سیلز اہتارٹی جو فراڈ، بدعنوانی، عنایت طرز عمل یا

ٹیکسوں کو چھپانے میں ملوث ہو، اس کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔

<sup>1</sup>[73. **Certain transactions not admissible.**– (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, payment of the amount for a transaction exceeding value of fifty thousand rupees, excluding payment against a utility bill, shall be made by a crossed cheque drawn on a bank or by crossed bank draft or crossed pay order or any other crossed banking instrument showing transfer of the amount of the sales tax invoice in favour of the supplier from the business bank account of the buyer <sup>2</sup>[:]

<sup>3</sup>[Provided that online transfer of payment from the business account of buyer to the business account of supplier as well as payments through credit card shall be treated as transactions through the banking channel, subject to the condition that such transactions are verifiable from the bank statements of the respective buyer and the supplier.]

<sup>4</sup>[Provided further that adjustments made by a registered person in respect of amounts payable and receivable to and from the same party shall be treated as payments satisfying the provisions of this sub-section subject to following conditions, namely:–

- sales tax has been charged and paid by both parties under the relevant provisions of this Act and rules prescribed thereunder, wherever applicable; and
- the registered person has sought prior approval of the Commissioner before making such adjustments.]

(2) The buyer shall not be entitled to claim input tax credit, adjustment or deduction, or refund, repayment or draw-back or zero-rating of tax under this Act if payment for the amount is made otherwise than in the manner prescribed in sub-section (1), provided that payment in case of a transaction on credit is so transferred within one hundred and eighty days of issuance of the tax invoice.

(1) اس ایکٹ میں شامل کسی چیز یا فی الوقت لاگو کسی بھی دوسرے قانون کی موجودگی کے باوجود یوٹیلیٹی بلز کے علاوہ چھپاس ہزار روپے سے زائد کے کسی بھی لین دین پر ادائیگی کسی بینک کے کراس چیک یا کراس بینک ڈرافٹ یا کراس پے آرڈر یا کسی بھی کراس بینک دستاویز کے ذریعے ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ سیلز ٹیکس انوائس کی رقم خریدار کے کاروباری بینک اکاؤنٹ سے سپلائر کو ادا کر دی گئی ہے۔

شرط یہ ہے کہ خریدار کے کاروباری اکاؤنٹ سے سپلائر کے کاروباری اکاؤنٹ میں آن لائن منتقلی اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کی گئی ادائیگیاں بینکنگ چینل کے ذریعے ہی سمجھی جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی ادائیگیاں متعلقہ خریدار اور سپلائر کے بینک گوشواروں میں ظاہر ہوں۔

بشرطیکہ ایک رجسٹرڈ شخص کی جانب سے ایک ہی فریق کو ادا کی جانے والی اور وصول کی جانے والی رقم کے سلسلے میں کی جانے والی ایڈجسٹمنٹ کو مندرجہ ذیل شرائط کے تحت اس ذیلی سیکشن کی دفعات کو پورا کرنے والی ادائیگیوں کے طور پر سمجھا جائے، یعنی:–

- سیلز ٹیکس دونوں فریقوں نے اس ایکٹ کی متعلقہ دفعات اور اس کے تحت مقرر کردہ قواعد کے تحت وصول کیا ہے اور ادا کیا ہے، جہاں بھی قابل اطلاق ہو؛ اور
- رجسٹرڈ شخص نے اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کرنے سے پہلے کمشنر سے پیشگی منظوری مانگی ہے۔]

(2) اگر ذیلی دفعہ 1 میں دیئے گئے طریقے کار کے علاوہ ادائیگی کسی دوسرے ذریعے سے ہو تو خریدار ان پٹ ٹیکس کریڈٹ تصفیہ یا کٹوتی یا ریفرنڈ یا رقم کی واپسی یا ڈرا بیک یا اس ایکٹ کے تحت صفر شرح کا حق دار نہ ہوگا۔ اس قسم کی ادائیگی ٹیکس انوائس جاری ہونے کے 180 دن کے اندر منتقل ہونی چاہیے۔

(3) The amount transferred in terms of this section shall be deposited in the business bank account of the supplier, otherwise the supplier shall not be entitled to claim input tax credit, adjustment or deduction, or refund, repayment or draw-back or zero-rating of tax under this Act.

**Explanation**— For the purpose of this section, the term “business bank account” shall mean a bank account utilized by the registered person for business transactions, declared to the <sup>1</sup>[Commissioner] in whose jurisdiction he is registered <sup>2</sup>[through Form STR-1 or change of particulars in registration database.]]

<sup>3</sup>[(4) A registered <sup>4</sup>[person] shall not be entitled to deduct input tax (credit adjustment or deduction of input tax) which is attributable to such taxable supplies exceeding, in aggregate, one hundred million rupees in financial year or ten million rupees in a tax period as are made to certain person who is not a registered person under this Act:

Provided that the aforesaid shall not apply to supplies made to.-

- (a) Federal / provincial / local Government departments, authorities, etc. not engaged in making of taxable supplies;
- (b) Foreign Missions, diplomats and privileged persons; <sup>5</sup>[\*\*\*]
- (c) all other persons not engaged in supply of taxable goods; <sup>4</sup>[and]
- <sup>6</sup>(d) persons or classes of person, specified by the Board through notification in the official Gazette subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.]

(3) اس سیکشن کے لحاظ سے منتقل کی گئی رقم سپلائر کے بزنس بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی، ورنہ سپلائر اس ایکٹ کے تحت ان پٹ ٹیکس کریڈٹ، ایڈجسٹمنٹ یا کٹوتی، یا ریفرنڈ، ادا ایگی یا ڈرا بیک یا ٹیکس کی زیرو ریٹنگ کا دعویٰ کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔

وضاحت— اس سیکشن کے مقصد کے لئے، "بزنس بینک اکاؤنٹ" کی اصطلاح کا مطلب ایک بینک اکاؤنٹ ہوگا جو رجسٹرڈ شخص کے ذریعہ کاروباری لین دین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا اعلان <sup>1</sup>[کمشنر] کو کیا جاتا ہے جس کے دائرہ اختیار میں وہ <sup>2</sup>[فارم ایس ٹی آر-1 کے ذریعے یا رجسٹریشن ڈیٹا بیس میں تفصیلات کی تبدیلی کے ذریعے رجسٹرڈ ہے۔]]

(4) ایک رجسٹرڈ شخص ان پٹ ٹیکس میں کٹوتی کا حقدار نہیں ہوگا (کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ یا ان پٹ ٹیکس میں کٹوتی) جو اس طرح کی قابل ٹیکس سپلائروں سے بالاتر ہے، جو ایک مالی سال میں مجموعی طور پر دس لاکھ روپے یا ٹیکس کے دورانیے میں ایک کروڑ روپے، جو ایسے شخص نے بنائے جو اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ افراد میں شامل نہیں ہے۔

شرط یہ ہے کہ مذکورہ سامان کا ذیل میں بتائی گئی سپلائرز پر اطلاق نہیں ہوگا۔

(a) وفاقی / صوبائی / مقامی حکومتی محکمے، حکام وغیرہ جو قابل ٹیکس سپلائرز سے منسلک نہیں ہیں۔

(b) غیر ملکی مشنرز، سفارتکار اور مراعات یافتہ افراد

(c) وہ تمام افراد جو قابل محصول سامان کی فراہمی سے منسلک نہیں ہیں۔

(d) بورڈ کی جانب سے آفیشل گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے فرد یا اشخاص کی درجہ بندی کی گئی ہے، ان میں موجود شرائط یا پابندیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

## 74۔ مقررہ مدت کی پابندی میں چھوٹ

<sup>1</sup>[74. **Condonation of time-limit.**— Where any time or period has been specified under any of the provisions of the Act or rules made there under within which any application is to be made or any act or thing is to be done, the <sup>2</sup>[Board] may, in any case or class of cases, permit such application to be made or such act or thing to be done within such time or period as it may consider appropriate [:]

Provided that the Board may, by notification in the official Gazette, and subject to such limitations or conditions as may be specified therein, empower any [Commissioner] to exercise the powers under this section in any case or class of cases.

**Explanation.**— For the purpose of this section, the expression “any act or thing is to be done” includes any act or thing to be done by the registered person or by the authorities specified in section 30 of this Act.]

<sup>3</sup>[74A. **Validation.**— <sup>4</sup>(1) All notifications and <sup>4</sup>orders issued and notified in exercise of the powers conferred upon the Federal Government, before the commencement of Finance Act, <sup>5</sup>[2018] shall be deemed to have been validly issued and notified in exercise of those powers.]

<sup>6</sup>(2) Notwithstanding any omission, irregularity or deficiency in the establishment of or conferment of powers and functions on the Directorate General (Intelligence and Investigation), Inland Revenue and authorities specified in section 30A, all orders passed, notices issued and actions taken, before commencement of the Finance Act, 2018, in exercise or purported exercise of the powers and functions of the officers of Inland Revenue under this Act by the Director General (Intelligence and Investigation), Inland Revenue or the authorities specified in section 30A shall be deemed to have been validly passed, issued and taken under this Act.]

اس ایکٹ یا اس کے تحت بنائے گئے قوانین کے تحت جہاں کوئی درخواست یا کوئی فعل یا کام سرانجام دینے کے لیے مدت یا عرصہ کی پابندی عائد ہے، وہاں بورڈ کسی ایک کیس یا کیسوں کی نوع کے حوالے سے ایسی درخواست گزار یا فعل یا کام سرانجام دینے میں جتنا وہ مناسب سمجھے، اتنے عرصہ یا مدت کی چھوٹ دے سکتا ہے۔

شرط یہ ہے کہ بورڈ سرکاری گزٹ میں بذریعہ نوٹیفیکیشن اس میں مقرر کردہ حدود و قیود کی شرائط کے تابع کسی بھی کمشنر کو کسی کیس یا کیسوں کی نوع کے سلسلے میں اس دفعہ کے تحت حاصل اختیار تفویض کر سکتا ہے۔

وضاحت:۔ اس دفعہ کے مقاصد کے لیے کوئی بھی عمل یا چیز جو کرنی چاہیے میں وہ تمام اعمال اور چیزیں شامل ہیں جو رجسٹرڈ شخص یا اہلکار کو جن کا ذکر اس ایکٹ کی دفعہ 30 میں کیا گیا ہے کرنا چاہیے۔

## 74A۔ تصدیق و توثیق

(1) وفاقی حکومت کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے فنانس ایکٹ 2018 کے نفاذ سے قبل جاری کردہ اور مشتمل کردہ تمام نوٹیفیکیشن اور احکامات سے متعلق یہ تصور کیا جائے گا کہ گویا وہ ان اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے باضابطہ طور پر جاری اور مشتمل کیے گئے ہیں۔

(2) اختیارات کے نفاذ اور ڈائریکٹوریٹ جنرل (انٹیلیجنس جنس اور انویسٹی گیشن) میں کوئی بے ضابطگی یا کمی کے باوجود ان لیسنڈ ریونیو اور متعین حکام سے متعلق جیسا کہ سیکشن 30 اے میں بتایا گیا ہے تمام احکامات منظور، نوٹسز کا اجرا اور کارروائی ہوگی۔ فنانس ایکٹ 2018 سے پہلے، ڈائریکٹر جنرل (انٹیلیجنس اور انویسٹی گیشن) کے تحت ان لیسنڈ ریونیو کے افسران اور حکام جیسا کہ سیکشن 30 اے میں بتایا گیا ہے وہ اس قانون کی درنگی، منظوری، اور اس کے تحت کی گئی کارروائی سے متعلق متعین حکام کو وضاحت دیں گے۔

**75. Application of the provisions of Act IV of 1969 to Sales Tax.**— The Federal Government may, by notification in the official

Gazette, declare that any of the provision of the Customs Act, 1969 (IV of 1969), relating to the levy of, and exemption from, customs duties, drawback of duty, warehousing, confiscation, and procedure relating to offences and appeals shall, with such modifications and alterations as it may consider necessary or desirable to adapt them to the circumstances, be applicable in regard to like matters in respect of the tax imposed by section 3.]

<sup>1</sup>[76. **Fee and service charges.**— <sup>3</sup>[(1)] The <sup>2</sup>[“Board with approval of the Federal Minister-in-charge”] may, by notification in the official Gazette, subject to such conditions, limitations or restrictions as it may deem fit to impose, levy fee and service charges for valuation, in respect of any other service or control mechanism provided by any formation under the control of the Board, including ventures of public-private partnership, at such rates as may be specified in the notification.]

<sup>3</sup>[(2) The Board may authorize and prescribe the manner in which fee and service charges collected under sub-section (1) shall be expended.]

وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے اعلان کر سکتی ہے کہ کسٹمز ڈیوٹی یا اس سے استثنیٰ، ڈیوٹی کے ڈرا بیک، وٹسیر ہاؤسنگ، اشیاء کی ضبطگی اور جرائم اور اپیلز سے متعلق طریقہ کار سے متعلق کسٹمز ایکٹ 1969 (IV بابت 1969) کی شرائط ایسی تبدیلیوں اور ترامیم کے ساتھ جو انہیں حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ضروری و مناسب ہوں دفعہ 3 کے تحت عائد کردہ ٹیکس کے ضمن میں مماثل ادوار کی بابت اطلاق پذیر ہوں گی۔

76 فیس اور سروس چارجز- (1) وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے، ان شرائط و ضوابط کے تحت جو وہ موزوں سمجھے، قدر دانی کے لیے فیس اور دیگر سروس چارجز لاگو کر سکتی ہے، یہ فیس کسی دیگر سروس یا کنٹرول میکانزم جو بورڈ کے ماتحت کسی فنانسیشن کی طرف سے فراہم کیا جائے بشمول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر لاگو ہوگی، اس کی شرح بورڈ نوٹیفکیشن کے ذریعے متعین کرے گا۔

(2) ذیلی دفعہ (1) کے تحت چارج اور جمع کیے جانے والے چارجز کو خرچ کرنے کے حوالے سے بورڈ طریقہ کار تجویز کر سکتا ہے اور احبازت دے سکتا ہے۔

Thanks

شکریہ